

# AITA

## A Complete Introduction



---

**Alipur India Thai Trade Association**  
**Bangkok - Thailand**

---



## Message from Imam Jama'at



Imam Bargahe SAHEB-UZ-ZAMAN (atfs)  
Bangkok, Thailand

رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا ارشاد ہے "الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَهُمْ لِعِيَالِهِ" ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے گھرانہ کا خیال رکھے اور خدمت کرے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح اور روشن ہے پروردگار کی خالصانہ عبادت کے بعد سب سے عظیم اور محترم عمل "خدمتِ خلق" لفظ خلق سے مراد ہر وہ انسان جو مخلوق خداوند منان ہے بلا تفریق دین و مذہب، جب عام مخلوق کی خدمت اس درجہ عظمت رکھتی ہے تو مومنین کی خدمت کا درجہ کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے خدا کی نافرمانی کے بعد سب سے بُرا عمل مخلوق خدا کو آزار و اذیت پہنچانا ہے، اس اعتبار سے ہر انسان کی سعی و تلاش اپنی بضاعت کے مطابق خدمت انجام دینا ہے ہاں اگر کوئی خدمت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے یا کسی کو خدمت کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے تو مرحلہ بڑا نازک ہو جاتا ہے اب ذمہ داری قبول کرنے والے پر ہے کہ حتی المقدور خدمت کر کے بہترین عمل انجام دے یا حتی المقدور خدمت نہ دیتے ہوئے بدترین عمل انجام دے، امام بارگاہ صاحب الزمان ع کے کی ترقی اور کامیابی اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ آج تک جتنے ذمہ دار گزرے ہیں انہوں نے بنحو احسن اپنی ذمہ داری نبھائی اپنا حق ادا کیا اللہ سے دعاگو ہو کہ بحق صاحب الزمان ع یہ ادارہ ظہور امام تک اس سے بہتر ترقی کی منازل طے کرتا رہے اور مخلص اور دردمند حضرات اس ادارہ کی خدمت کرتے رہیں۔ ماضی کے خدمت گزاروں جو حال حیات میں ہیں انکے حضور قدر اور احترام، جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے انکے درجات کی بلندی، موجود خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ اور آنے والے خدمت گزاروں کے لئے نیک تمنائیں اللہ سے طلب کرتا ہے



IBS-AITA  
BANGKOK

**Mir Mehfooz Raza Abedi**

Imam Jama'at,  
Imam Bargahe SAHEB-UZ-ZAMAN (atfs), Bangkok-Thailand



Alipur International  
Traders Association.  
Bangkok - Thailand

## Message from Hon'ble President

### " A Journey of Thousand Miles Begins with a Single Step"



It is an immense pleasure and honor to be associated with Alipur International Traders association (AITA)

AITA has been serving community in organizing all religious programs for every momineen and mominath coming from different parts of the world since the year 2003. Our association henceforth been guiding and helping people especially people of Alipur ,India.

Primary motive and vision is to strive for the people of Alipur and highly spirited youths giving them opportunities for present and future here in Bangkok ,Thailand.

Presence and guidance of Moulana Syed Mehfooz Abedi and Mr. Syed Sameer Hyat (chief of advisory board) has been helping hand throughout.

AITA members have been working hard to serve community and promote international business market to become best community in Bangkok ,Thailand.

We management members sincerely thank all the members of AITA and people of IBS(Imam bargah Sahibuz zaman a.s) for supporting us with gratitude.

Finally we would like to thank Imam Zaman(Ajfs) for blessings and guidance.

**Mohd. Askari Baqri**

Hon'ble President, AITA



Alipur International  
Traders Association, Bangkok - Thailand



## Message from Hon'ble Secretary

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى فَنَائِهَا وَمِنْ الْآخِرَةِ إِلَى بَقَائِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالنَّائِمَةِ الْمُعْصُومِينَ ع. أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءُ تَسَعُهُ أَجْزَاءُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ -

رسول خدا ص کا ارشاد گرامی ہے کہ عبادت کے دس قسمیں ہیں ، نو قسمیں رزق حلال کی تلاش میں ہیں  
بیانکاک شہر تجارت کے بنا پر مرکز بنتا جا رہا تھا اور مومنین کا رزق حلال کی تلاش میں تجارت کیلئے یہاں پر  
رفت و آمد اور سکونت اختیار کرنا عام ہوتا گیا۔

مجھے یاد ہے کہ سن ۲۰۰۰ (دو ہزار عیسوی) میں تقریباً ۲۰ مومنین مستقر ہو گئے تھے اور کچھوں کا آنا جانا تھا تو ہم نے  
گھروں میں ہر شب جمعہ دعا کمال کا اہتمام کیا اور ولادات معصومین ع پر جشن اور شہادات خصوصاً محرم الحرام میں  
مجلسوں کا انتظام کئے، پھر احساس ادارہ ہوا اور 2003 میں ایٹا AITA وجود میں آیا۔ جب مومنین کی تعداد بڑھتی گئی  
اور گھروں میں جگہ کی تنگی کا احساس ہونے لگا اور نگران تھے کہ کریں تو کیا کریں؟ امام علی ع کی یہ حدیث یاد آئی  
الْمَرْءُ بِهَيْئَتِهِ لَا بِقُتْبِيَّتِهِ یعنی انسان کی ارزش و قیمت اسکی ہمت ہوتی ہے نہ کہ دولت ، ہماری ہمت اور جناب سمیر بھائی کی  
مدد سے یہ امام بارگاہ صاحب الزمان ع IBS کا وجود 2005 میں ہوا۔

یہ ادارہ ایٹا وجود میں آنے سے پہلے جن علماء نے ماہ محرم ہو یا ماہ مبارک رمضان یا دیگر مخصوص ایام میں اپنی  
مخلصانہ خدمات انجام دئے ہیں وہ کیسے بھولایا جاسکتا ہے؟ بے شک قابل تحسین ہیں ، ہم بے حد ممنون  
و مشکور بھی ہیں اور انکی حق میں دعا گو بھی۔

وہ پہلا محرم الحرام کا عشرہ آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے جسمیں مولانا عدیل رضا صاحب قبلہ تشریف لائے تھے  
مومنین میں جوش و جذبہ ابھر آیا تھا، اور ماہ مبارک رمضان میں مولانا محفوظ علی صاحب قبلہ نے جب اپنی خدمات انجام  
دئے تو ہر ایک کے لب پر یہی تھا کہ میں نے ماہ مبارک میں پہلی بار سکون کیساتھ قرآن کریم کو ختم کیا

اور کچھ مومن نے قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھا، خوشی اس بات کی تھی کہ جتنے مومن موجود تھے رمضان المبارک کی آخری تاریخ تک کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ اور وہ ماہ مبارک رمضان بھی کیسے بھولایا جاسکتا ہے کہ مولانا سلمان عابدی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے اور ساری ساری راتیں جاگ کر اس ادارہ کا دستور العمل بنایا تھا۔!

مولانا کا قول ہے عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَالْاجْتِهَادِ وَالتَّهَبُّ وَالْاِسْتِعْدَادِ۔ یعنی آپ پر لازم ہے کوشش کرنا اور سخت محنت کرنا اور متنبہ ہونا اور آمادہ و تیار ہونا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے عمل پیرا بنیں۔ ان شاء اللہ۔

جن علماء نے اس امام بارگاہ میں یا اس سے قبل گھروں میں اپنی خدمات انجام دے دی ہیں انکا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں، ہمارے وطن کے سرپرست اعلیٰ حجة الاسلام مولانا ذکی باقری صاحب قبلہ، مولانا عدیل رضا صاحب قبلہ، مولانا محفوظ علی صاحب قبلہ، مولانا علی رضا صاحب قبلہ، مولانا سلمان عابدی صاحب قبلہ، مولانا ناطق علیپوری صاحب قبلہ، مولانا منظور رضا صاحب قبلہ، مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، مولانا محمد علی صاحب قبلہ، مولانا اظہر حسین صاحب قبلہ، مولانا حبیب الحسن صاحب قبلہ، مولانا سرکار علی صاحب قبلہ، مولانا محمد باقر پاکستان صاحب قبلہ، مولانا محمد تصدیق صاحب قبلہ، مولانا عباس عابدی صاحب قبلہ، مولانا علی باقر صاحب قبلہ، مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ، مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، مولانا اعجاز نجفی صاحب قبلہ، مولانا کلب رشاید صاحب قبلہ، مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ، مولانا محمد مقداد صاحب قبلہ، مولانا دلاور حسین صاحب قبلہ، مولانا مدبر رضا صاحب قبلہ، مولانا علی اکبر صاحب قبلہ، مولانا محمد رضا عادل صاحب قبلہ، مولانا عاطف نقوی پاکستان صاحب قبلہ، مولانا عظمت علی پاکستان صاحب قبلہ، مولانا قائم عباس صاحب قبلہ، شیخ شعبانی صاحب قبلہ۔

الحمد للہ مولانا محمد الموسوی قبلہ لنڈن اور جناب ڈاکٹر سید محمد تیجانی قبلہ اور مولانا ڈاکٹر سید جواد مظلومی قبلہ نمایندہ رہبر جیسے بڑی شخصیتوں اور ہستیوں نے بھی ہماری امام بارگاہ سے مشرف ہوئے ہیں۔

تھائی علماء حضرات کا بھی ہمارے ساتھ

بھرپور تعاون رہا، جیسے مولانا سید سلیمان حسینی قبلہ، مولانا سید مبارک حسینی قبلہ، مولانا شیخ غلام علی قبلہ، مولانا شیخ صالح قبلہ، مولانا شیخ مقداد قبلہ، مولانا شیخ شریف قبلہ، مولانا شیخ عبد اللہ قبلہ، مولانا سید علی حسینی قبلہ۔

دیگر علماء کرام بھی جو برصغیر، عراق اور ایران سے وقتاً فوقتاً اپنی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔

قابل ذکر ہے کہ ایرانی سفارت خانہ (Iranian Embassy) و ایرانی کلچرل سنٹر اور المصطفیٰ یونیورسٹی اور

ہندوستانی سفارت خانہ (Indian Embassy) نے ہمیشہ ہماری ہمت افزائی کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے امام

بارگاہ میں ضرورتاً شرکت فرماتے رہے ہیں۔

مومنات میں بھی معلمہ ذاکرہ خطیبہ آتی رہیں۔ مثلاً خواہر کوثر جعفری صاحبہ، خواہر مشرف فاطمہ صاحبہ، خواہر عصمت فاطمہ صاحبہ، خواہر مخلص فاطمہ صاحبہ، خواہر رخسار فاطمہ صاحبہ، خواہر زہراء صاحبہ۔

ایک طرف بچوں اور بچیوں کی مذہبی معلومات کا مسئلہ ستایا جا رہا تھا اور ایک طرف امام جماعت کا، الحمد للہ مولانا حبیب باقری صاحب اور انکی اہلیہ خواہر مصدقہ بانو دو سال و چند ماہ کیلئے ہماری دعوت قبول فرما کر یہاں تشریف لائے اس طرح بچوں اور بچیوں کی اسلامی دینیات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اب مولانا محفوظ رضا صاحب اور انکی اہلیہ خواہر کمیل زہرا صاحبہ بیشتر از دو سال سے اپنی خدمات انجام دیتے آرہے ہیں۔

ہم ہستی حق خداوند کریم و رحیم کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ تمام علماء کرام، ذاکران، معلمین، نوحہ خوان، مرثیہ خوان، منقبت خوان، اور شاعر حضرات کا جنہوں نے ہمیشہ خدمات انجام دئے اور دے رہے ہیں انکے علم و توفیقات میں اضافہ اور خدمات کو قبول فرمائے، جو جوان اور نوجوان اپنی خدمات کو انجام دیتے آرہے ہیں خداوند رحیم ان سب کو اپنی امان میں محفوظ رکھے اور ترقی عطا فرمائے آمین۔

ایٹا کا یہ ایک پہلو تھا اور اس اسوسیشن کا دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ مؤمنین جو اس ادارہ کے ممبر ہیں انکی فکری، عملی اور مالی امداد کرنا۔

مسائل پیش آئیں تو مشکلوں کو دور کرنا، الحمد للہ اب تک اس ادارہ نے حتی الامکان بخوبی اس کام کو انجام دیا ہے اور انجام دیتا رہیگا ان شاء اللہ۔ مثلاً جب چانٹابوری کا مسئلہ پیش آیا (پولس نے چند مومن تاجر کو گرفتار کر لے گئی تھی) تو اس ادارہ کے عہدہ داران نے ممبران کی مدد سے اس مسئلہ کا حل کیا۔

جب ٹورسٹ پولس نے موچت سے میساٹ mysot جاتے وقت مومن بھائیوں کو حراست میں لے لیا تھا وہ مسئلہ ہوا یا accident سے مومن بھائی کی موت ہو گئی تھی وہ ہو یا کچھ پاکستانی مومن بھائی یہاں بیاناک میں پھنس گئے تھے انکا ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو یا پھر ملیشیا میں جو مومن حضرات پھنس گئے تھے انکا مسئلہ ہو یا انڈونیشیا میں ادارہ کے ممبر کا ہو یا ایران میں مومن بھائی کا مسئلہ اس ادارہ نے بخوبی تمام مسائل کا حل کیا۔

دعا ہے کہ ہمارے مومن بھائی جہاں کہیں بھی ہوں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔ ہمیشہ مومنین اور ممبران کی مدد کرتا رہے۔ پروردگار عالم اس ادارہ کو داخلی و خارجی گندی سیاست سے محفوظ رکھے، اتحاد کو قائم و دائم رکھے، ہمارے خدمات میں خلوص عطا فرمائے۔ آمین

السید

**Alim Raza Syed**

Hon'ble Secretary, AITA

احقر العباد

سید عالم رضا



# AITA Founder Members



**Janab  
Alim Raza**



**Janab  
Samir Hayat**



**Maulana  
Mahfooz Ali**



**Maulana  
Salman Abedi**



**Janab  
Mohd. Zakaria**



**Late Janab  
Zafer Ahmed**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Janab  
Showkath Ali**



**Janab  
Mohd. Askari**



**Janab  
Atqiya Hussain**



**Janab  
Hamza Ali**



**Janab  
Taqi Raza**



**Janab  
Nooral Hassan**



**Janab  
Samir Raza**



**Late Janab  
Zia ul Hassan**



**Janab  
Mohd. Raza**



**Janab  
Mushahid Ali**



**Janab  
Nakeer Raza**



**Janab  
Abid Raza**



**Janab  
Mahmud Raza**



**Janab  
Thasil Abbas**



**Janab  
Jaffer Ahmed**



# IBS-AITA, MANAGEMENT COMMITTEE 2003-06



**Janab  
Mohd. Zakaria  
President**



**Janab  
Alim Raza  
Secretary**

**Founders**



**Janab  
Mohd. Askari  
Vice-President**



**Janab  
Atqiya Hussain  
Joint - Secretary**



**Janab  
Hamza Ali  
Treasurer**

Imam Bargahe SAHEB-UZ-ZAMAN (atfs) IBS  
Alipur International Traders Association (AITA)

# AITA ADVISORY BOARD MEMBERS

I & II Term

**2003-06**  
**2006-09**



**Maulana  
Mahfooz Ali**



**Janab  
Samir Hayat**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Late Janab  
Zafer Ahmed**



**Janab  
Showkath Ali**

**Alipur International Traders Association (AITA)**



# **IBS-AITA, MANAGEMENT COMMITTEE**

## **2006-09**



**Janab  
Mohd. Zakaria  
President**



**Janab  
Alim Raza  
Secretary**



**Janab  
Mohd. Askari  
Vice-President**



**Janab  
Taqi Raza  
Joint - Secretary**



**Janab  
Hamza Ali  
Treasurer**

# IBS-AITA MANAGEMENT COMMITTEE



Imam Bargahe SAHEB-UZ-ZAMAN (IBS)  
Alipur International Traders Association (AITA)

## 2009-12



**Janab  
Mohd. Askari  
President**



**Janab  
Alim Raza  
Secretary**



**Janab  
Mushahid Ali  
Vice-President**



**Janab  
Tavasil Mehdi  
Joint - Secretary**



**Janab  
Atqiya Hussain  
Treasurer**



**Janab  
Masoom Abbas  
Convenier**

# AITA ADVISORY BOARD MEMBERS

## 2009-12



**Maulana  
Salman Abedi**



**Maulana  
Haseebul Hassan**



**Janab  
Samir Hayat**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Late Janab  
Zafer Ahmed**

**Alipur International Traders Association (AITA)**

# IBS-AITA, MANAGEMENT COMMITTEE


2012  
TO  
2015



**Janab  
Mohd. Askari  
President**




**Janab  
Alim Raza  
Secretary**



**Janab  
Sadaq Ali  
Vice-President**



**Janab  
Tavasil Mehdi  
Joint - Secretary**



**Janab  
Atqiya Hussain  
Treasurer**

**Imam Bargahe SAHEB-UZ-ZAMAN (IBS)  
Alipur International Traders Association (AITA)**



**2012  
TO  
2015**

## **AITA ADVISORY BOARD MEMBERS**



**Maulana  
Haseebul Hassan**



**Janab  
Samir Hayat**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Late Janab  
Zafer Ahmed**




**Janab  
Javid Ali**


**Alipur International Traders Association (AITA)**

# **IBS-AITA, MANAGEMENT COMMITTEE**

## **2015-18**



**Janab  
Atqiya Hussain  
Mussheer Awwal**




**Janab  
Nashir Raza  
President**



**Janab  
Mufeed Abbas  
Secretary**



**Janab  
Abu Zar  
Vice-President**



**Janab  
Tavassul Hyder  
Joint-Secretary**



**Janab  
Mohd. Abis  
Treasurer**



**Janab  
Zamin Abbas  
Convenier**

# **AITA ADVISORY BOARD MEMBERS**

**2015-18**



**Janab  
Alim Raza**



**Janab  
Samir Hayat**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Late Janab  
Zafer Ahmed**



**Janab  
Mohd. Askari**

**Alipur International Traders Association (AITA)**



# IBS-AITA MANAGEMENT COMMITTEE

2018  
TO  
2021

The Advisory body has appointed the  
New Management Committee for next  
3 years to serve the community in Thailand.

***Congratulations!***



**Mohd. Askari**

President



**Alim Raza**

Secretary



**Sadaq Ali**

Vice-President



**Tavasli Mehdi**

Joint-Secretary



**Atqiya Hussain**

Treasurer




**Abu Taher**

Joint-Treasurer



**Zamin Abbas**

PRO



**2018  
TO  
2021**

## **AITA ADVISORY BOARD MEMBERS**




**Maulana  
Haseebul Hassan**



**Janab  
Samir Hayat**



**Janab  
Ibne Hassan**



**Janab  
Nashir Raza**



**Janab  
Fazlil Abbas**

**IBS-AITA**



**دستور العمل**

# **Constitution (By-Laws)**

Of Organisation of AITA, Bangkok

**Address : IMAM BARGAH-E-SAHIB-UZ-ZAMAN (atfs)**

# 289/28-29, Soi Kamchai Iamsuri, Surawong Road,  
Bangkok - Thailand

# NAME AND IMPLEMENTATION

# نام و نفاذ

1. The name of this institution will be “Alipur International Traders Association” and the abbreviation will be “AITA”.
2. This constitution shall be implemented upon all those traders originating from Alipur, Karnataka, South India whose business is in overseas. And their consent and interest are for the growth and prosperity of this institution and register themselves as a member by paying 3 years annual fees.
3. The head office of the association shall be located in the city of Bangkok and all its activities shall be in Thai, Urdu and English. If required any other language can be used for any correspondence.

The association will be authorized to make any amendments to this constitution from time to time, but before its implementation, the Executive body have to seek the consent from the Advisory Board and from the founder members.

اس ادارہ کا نام علی پور انٹرنیشنل ٹریڈرس ایسوسی ایشن رہے گا جس کا مخفف ایٹا ہو گا

اس دستور العمل کا نفاذ علی پور کرناٹک، جنوب ہند کے اُن تمام تاجروں پر ہو گا جو بیرون ممالک تجارت کرتے ہیں اور جو بہ رضا و رغبت اس ایسوسی ایشن کی فلاح و بہبودی یعنی تین سالہ فیس ادا کر کے باقاعدہ اس کے رکن بنتے ہیں

اس ایسوسی ایشن کا صدر دفتر شہر بنکاک میں رہے گا اور اس کی تمام تر کاروائیاں تھائی اُردو اور انگریزی زبان میں ہوں گی، حسب ضرورت مراسلات کے لئے کوئی بھی زبان استعمال کی جا سکتی ہے

حسب ضرورت دستور عمل میں ترمیم کرنے کا اختیار اس ایسوسی ایشن کو ہو گا مگر نفاذ سے پہلے مجلس منتظمہ کو مجلس مشاورت اور فائونڈرز ممبر سے پیشگی منظوری حاصل کرنا پڑے گی

# AIMS AND OBJECTIVES

## اغراض و مقاصد

1. To follow Islamic practices in all dealings.
2. To maintain unity and harmony among the AITA business community and to extend friendly relations and courteous behavior with other business groups.
3. Full cooperation with the government within the Sharia limits.
4. To assist financially to the AITA traders in case of any emergency or any untoward incident or for any unforeseen health issue, with a condition that the assistance amount extended to him/her is in form of compassionate loan and shall be returned within the agreed timeframe.
5. To maintain cordial relations with the local business organizations/community.
6. To raise funds for hometown in case of any untoward eventualities or disasters.
7. To resolve business issues of AITA traders both shop/office owners as well visiting traders in all forms - legally or reporting the matter to the police or pursuing the case in the court.
8. To arrange religious activities and programs in Thailand.
9. To deploy representatives in different countries.
10. To train the traders on best business practices.

معاملات میں اسلامی اصولوں کی پابندی

تاجروں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے استحکام کی سعی اور دیگر اقوام سے دوستانہ تعلقات اور اچھے سلوک کی کوشش

شرعی حدود میں حکومت وقت سے بھی بھرپور تعاون

وطن سے کاروبار کے سلسلے میں آئے ہوئے تاجر کو کسی ناگوار حادثہ پیش آنے یا صحت کی خرابی کی بنا پر تحقیق کے بعد حسب استطاعت مالی مدد کرنا بشرطیکہ وہ اس ایسوسی ایشن کا رکن ہو اور جو رقم دی جائے گی وہ بطور قرض الحسنہ دی جائے گی، جس کی ادائیگی مقررہ وقت پر ہونی چاہیے

مقامی تاجروں کے اداروں سے اچھے روابط قائم کرنا

وطن میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آنے پر وقتی وصولی کے ذریعہ حسب استطاعت مالی مدد کرنا

وطن سے آئے ہوئے تاجر یا مقامی دکاندار کو کاروباری لحاظ سے کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو اگر وہ اس ایسوسی ایشن کا رکن ہو تو تحریری عرضی ملنے پر اس کی مشکل رفع کرنا یا حالات کے تحت پولیس میں شکایت درج کرنا یا عدالت سے رجوع کرنا

تھائی لینڈ میں مذہبی امور کا انتظام کرنا

بیرون ممالک اپنا نمائندہ مقرر کرنا

مہندی تاجر کو تجارت کے اصولوں کی تربیت کرنا

# FORMATION OF COMMITTEES

## تشکیل عہدیداران

6. This association will expedite their duties under the benevolence of Imam e Zamana AJTF, and it will be comprised of three bodies.

- General Body
- Executive Body
- Advisory Body

- a. **General Body:** People belonging to Alipur and residing permanently or temporary in overseas, involved in Gems and Jewels business or any other legal business, or visiting for business purposes, can become a member of this association by accepting the terms and conditions and paying the three years fees.

- b. The registration fees of general body member is two thousand baht and one thousand more for three years membership.

- c. Non-payment of dues for two terms will lead to automatically cancellation of membership.

- d. A member, whose fee is due for a term will lose the voting rights, however if he wishes to participate in the voting process, he must clear his overdue fees and also pay renewal/new fees.

- e. Any member indulging in immoral activities or brings defamation to the association or becomes a threat to the country will be expelled by the executive body with the consent of the advisory board.

یہ ایسوسی ایشن امام زمانہ کی عنایت کے زیر سایہ اپنے فرائض انجام دے گا، جو تین ایوانوں پر مشتمل ہو گا

- مجلس عامہ
- مجلس منتظمہ
- مجلس مشاورت

[الف] مجلس عامہ - وہ علی پوری افراد جو علی پور سے تعلق رکھتے ہوئے بیرون ممالک جواہرات یا کسی قسم کی جائز تجارت کرتے ہیں یا عارضی طور پر تجارت کی غرض یا مستقل طور پر کسی ملک میں سکونت اختیار کر چکے ہوں یا کاروباری لحاظ سے ان کا آنا جانا رہتا ہو، اس ایسوسی ایشن کے دستور عمل کو تسلیم کرتے ہوئے، اس ایسوسی ایشن کی تین سالہ فیس ادا کر کے اس کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔

[ب] مجلس عامہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے دو ہزار بھاٹ اور تین سالہ تمدید کے لئے ایک ہزار بھاٹ ادا کرنا ہو گا۔

[ج] جو رکن مسلسل دو میعاد کی فیس ادا نہ کرے وہ خود بخود رکنیت سے خارج ہو جائے گا۔

[د] جو رکن ایک ٹرم نہ دے وہ ووٹ کے حق سے محروم سمجھا جائے گا، اگر وہ ووٹ کا حق لینا چاہے تو اسے گزشتہ ٹرم کی باقی ماندہ فیس کے ساتھ نئی رکنیت کی فیس ادا کرنی پڑے گی۔

[ه] وہ رکن جو فسق و فجور میں مبتلا ہو یا اس کے حرکات سے قوم، ایسوسی ایشن یا ملک کو خطرہ یا بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسے رکن کو مجلس منتظمہ، مجلس مشاورت سے باہمی مشورہ کے ساتھ اتفاق آراء کے بعد رکنیت سے خارج کر سکتی ہے۔

## 7. Executive Body

## مجلس منتظمہ

a. Members having work permit or citizenship or any permanent office or staying in Thailand for more than six months in a year, are eligible to become a member of the Executive Body, and in case of cancellation of work permit will affect the membership. It is mandatory to have a valid work permit or legal status to become office bearers.

[الف] جو افراد ورک پرمٹ یا سٹی زن شپ یا کوئی مستقل آفس رکھتے ہیں یا سال میں چھ مہینے سے زیادہ یہاں قیام رکھتے ہیں، وہی مجلس منتظمہ کے رکن بن سکتے ہیں، ہاں اگر بعد میں کسی وجہ سے ورک پرمٹ منسوخ ہو جائے تو اس کی رکنیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ عہدیدار بننے کے لئے ورک پرمٹ یا قانونی جواز کا ہونا ضروری ہے

b. The membership fees payable is twenty-five thousand baht and three years renewal is ten thousand baht.

[ب] مجلس منتظمہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ہزار بھاٹ اور تین سال کی تمدید کے لئے ۱۰ ہزار بھاٹ ادا کرنا ہو گا۔

8. The Executive body will be elected by the general body members for tenure of three years through the voting process. All the tasks relating to the association shall be the responsibility of the Executive members who in turn will be presenting the summary of their activities and financial summary and shall be accountable and answerable to the General body.

مجلس منتظمہ کے عہدیداروں کو ہر تین سال بعد ایسوسی ایشن کے تمام اراکین منتخب کریں گے۔ ایسوسی ایشن کا سارا انتظام مجلس منتظمہ کرے گی اور ہر سال اپنی کارکردگیوں اور حسابات کی رپورٹ مجلس عامہ کو پیش کرے گی اور اس کی جواب دہ ہو گی۔

9. Under unacceptable circumstances, the member of the Executive Body can be expelled by a majority vote with the consent of the Advisory body, but the outgoing member will be given opportunity to defend themselves.

مجلس منتظمہ کے عہدیداروں کو ناقابل برداشت حالات میں مجلس منتظمہ کی اکثریت مجلس مشاورت کے مشورے کے بعد برطرف کر سکتی ہے، مگر برطرف کرنے سے قبل ہر طرف ہونے والے عہدیداروں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا

10. The Executive committee can form temporary committees consisting of members from General body to work under their supervision and these will get dissolved upon the accomplishment of the assigned work/purpose.

مجلس منتظمہ کسی بھی اہم کام کے لئے مجلس عامہ کے چند اراکین کی ایک عارضی کمیٹی تشکیل دے سکتی ہے جو مجلس منتظمہ کے ماتحت کام کرے گی اور اپنا کام پورا ہونے پر خود بخود برطرف ہو جائے گی

# OFFICE BEARERS OF THE EXECUTIVE BODY

# عہدیداران مجلس منتظمہ

1. The Executive Committee will have five office bearers.

اس اسوسی ایشن کے پانچ عہدیدار ہوں گے

- President
- Vice-President
- Secretary
- Joint Secretary
- Treasurer

- صدر
- نائب صدر
- معتمد
- نائب معتمد
- خازن

They will serve voluntarily, only to seek the pleasure Almighty God.

جوبلا معاوضہ خوشنودیء خدا کے لیے خدمات انجام دیں گے

**Note** – As and when needed a new position of convener, speaker or any other position can be created.

وٹ - حسب ضرورت کنونیر اسپیکر یا کسی بھی عہدے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

12. The bank account for the association will be maintained in a local bank jointly in the name of President, Secretary and Treasurer and the required transactions shall be with any two signatures.

اس ایسوسی ایشن کا کھاتہ مقامی بینک میں صدر، معتمد اور خازن تینوں کے مشترکہ نام سے کھولا جائے گا اور وقت ضرورت کسی دو مشترکہ عہدیداروں کے دستخط سے رقم بینک سے نکالی جائے گی

13. Without any legal reason, no one shall stop any member from duly discharging their duties

عذر شرعی کے بغیر کسی بھی عہدیدار کو اس کے فرائض سے روکا نہیں جا سکتا

14. The members of the Executive committee shall be elected by voting. If needed, they may also get nominated through selection process.

مجلس منتظمہ کے عہدیدار الیکشن سے منتخب ہوں گے، ضرورت پڑنے پر سلیکشن بھی کیا جا سکتا ہے

15. The dates for voting will be announced one month prior to the election

الیکشن کی تاریخ کا اعلان ایک ماہ پہلے کیا جائے گا

16. Once elections are declared, the new member is not eligible to vote, although he can stay as member. At least one month stay in Bangkok is mandatory for voting.

الیکشن کال فار ہونے کے بعد کوئی نیا ممبر ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھ سکتا البتہ ممبر رہ سکتا ہے۔ ووٹ کے حق کے لیے کم از کم ایک مہینہ شہر بنکاک میں قیام ضروری ہے

17. If any Executive Body member is not present at the time of election, he can vote through the proxy by submitting the general power of authority.

گر مجلس منتظمہ کا کوئی رکن الیکشن کے وقت موجود نہ ہو تو پاور آف اتھارٹی فارم کے ذریعہ اس کا ووٹ لیا جا سکتا ہے

# ELECTION OF THE PRESIDENT

# صدارت کا الیکشن

18. For the position of President, the aspiring candidates has to submit their name and bio-data to the advisory board, the advisory body will approve only those candidates who possess education and has no criminal records.

صدارت کے لئے امیدوار شخص الیکشن سے پہلے اپنا نام اور باءوڈیٹا، مجلس مشاورت کو پیش کرے گا، مجلس مشاورت اسی شخص کو صدارت کا ٹکٹ دے گی جو پڑھا لکھا ہو اور جس پر کوئی کریمینل کیس نہ ہو

19. The presidential candidate has to deposit twelve thousand baht to the election office and the candidates for other position shall deposit five thousand baht. The deposited amount is non-refundable.

صدر کے لئے امیدوار شخص کو بارہ ہزار بھاٹ الیکشن فیس ادا کرنے پڑیں گے اور کوئی دوسرے عہدے کے لئے امیدوار شخص کو پانچ ہزار بھاٹ ادا کرنا ہوگا اور یہ رقم واپس نہیں ہوگی

20. The presidential candidate will submit his name voluntarily and whoever secures the majority of votes will be declared the president and the candidates securing less votes may opt to get appointed for other positions.

امیدوار صدر رضاکارانہ طور پر اپنا نام پیش کرے گا جو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ تین سال کی میعاد کے لئے صدر بنے گا اور جو کم ووٹ لے گا وہ دوسرے عہدے کے لئے منتخب ہوگا

# ELECTION/ SELECTION OF THE PRESIDENT

The process of selection/election of president is as follows:

The interested candidates voluntarily submit their names for the role of president or any other position. In case of hesitance, any other member may introduce the candidate. The Advisory board will unanimously decide and declare the candidate. In case of tough competition between two or more candidates, the advisory board may announce the election or do a selection through lucky dip.

21. A president can only serve for two consecutive terms, if he desires to be president for the third term, then he has to take gap for a term and then nominate.

22. In event of resignation or death or absence of president or other office bearers during the tenure provided the time for next election is more than 6 months, then the executive body can nominate the vacant position with other member in consultation with Advisory Board.

23. All the office bearers will submit their resignation to the president and the president will submit his resignation to the Advisory board.

## صدارت کا الیکشن

سلیکشن کا طریقہ یہ ہو گا کہ صدارت یا دوسرے عہدے کا طلب گار رضاکارانہ طور پر اپنا نام پیش کرے گا۔ شرمندگی کی صورت میں کوئی بھی رکن کسی ایک رکن کا تعارف کرائے گا، پھر مجلس مشاورت اتفاق رائے سے اس شخص کا انتخاب کرے گی اگر دو یا دو سے زیادہ کے درمیان کڑا مقابلہ ہو تو مجلس مشورت یا الیکشن کا اعلان کرے گی یا پھر قرعہ کے ذریعہ کسی ایک کا انتخاب کر لے گی

صدر مسلسل دو میعاد کے لئے صدر ہو سکتا ہے، اگر وہ تیسری مرتبہ صدر بننا چاہے تو درمیان میں ایک ٹرم کا فاصلہ ہو گا اور اس کے بعد پھر وہ صدر کے لئے دعویدار ہو سکتا ہے

صدر اور عہدیداروں کے استعفیٰ یا مرگ یا غیر موجودگی کی صورت میں اگر آئندہ الیکشن کا وقت چھ ماہ سے زیادہ ہو تو موجودہ مجلس منتظمہ کے ممبرس مجلس مشاورت سے باہمی مشورے کے بعد صدر کا انتخاب کریں گے

تمام عہدیدار اپنا استعفیٰ صدر کو پیش کریں گے اور صدر اپنا استعفیٰ مجلس مشاورت کو پیش کرے گا

# POWERS

# اختیارات

For urgent need of the association, the President can spend up to fifty-thousand baht, secretary up to thirty thousand baht, Vice President up to twenty-five thousand baht, Finance Secretary and joint secretary fifteen thousand baht each. But they have to submit the details of the expenditure to the Executive body at the earliest.

اسوسی ایشن کی فوری ضروریات کے لئے صدر پچاس ہزار بھاٹ، معتمد تیس ہزار بھاٹ، نائب صدر پچیس ہزار بھاٹ، خازن پندرہ ہزار بھاٹ اور جوائنٹ معتمد پندرہ ہزار بھاٹ خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر پہلی فرصت میں یہ لوگ اپنے حساب کی تفصیلات مجلس منتظمہ میں پیش کریں گے

A. **President:** He will chair the meeting, maintain the discipline, oversees the morals and ensure Justice. He will schedule meeting, approve the agenda, check the accounts submitted by secretary and treasurer. He will be responsible for the welfare of the association and safeguard the external policy. He will be responsible to take an action on anyone disrupting the meeting process. He will enforce rules and regulations which will be abided by all the members.

[الف] صدر: میٹنگ کی صدارت کرے گا اور میٹنگ کے نظم و ضبط کا لحاظ، اخلاقیات کی نگہداشت اور تمام اراکین پر عدل و انصاف کی نظر کرے گا۔ میٹنگ کی تاریخ کا تعین، ایجنڈا کی منظوری، معتمد اور خازن کے حساب کی جانچ پڑتال، خارجہ امور اور خارجہ پولیسی کی حفاظت کا ذمہ دار ہو گا۔ میٹنگ میں جان بوجھ کر خلل ڈالنے والے رکن کا اخراج یا اس کی تادیبی کا روائی کا ذمہ دار ہو گا۔ صدر ایسوسی ایشن سے مربوط مسائل میں اپنے احکام نافذ کرے گا اور اس کے احکام تمام عہدیداروں اور اراکین پر واجب العمل ہوں گے۔

B. **Vice President:** He will assist the President in routine work and hold complete authority in case of the absence of the President. Note: In case of an emergency meeting where both President and Vice President are absent the secretary would act in that capacity or instruct any other member of the Executive body to do the same.

[ب] نائب صدر: نائب صدر، صدر کے کام میں ہاتھ بٹائے گا اور صدر کی غیر موجودگی میں صدر کے تمام اختیارات اسے حاصل رہیں گے۔ اشارہ: اگر ہنگامی میٹنگ کے لئے صدر اور نائب صدر دونوں موجود نہ ہوں تو معتمد خود یا اس کے اشارے پر مجلس منتظمہ کے کسی عہدیدار کو میٹنگ کا صدر بنایا جائے گا۔

C. **Secretary:** Responsible for all administrative affairs, maintain records of accounts, call meetings and general correspondence, document the minutes of the meeting, reconcile bank statements and update all about the decisions. He will collect all applications and correspondence and update the members in the monthly meeting. He will follow the instructions of the President and in case of dispute present the issue to the Executive body.

[ج] معتمد: جملہ انتظامی امور کا ذمہ دار ہو گا، دفتر کے تمام حسابات تحریری اطلاع کے ساتھ اجلاس طلبی، حسابات کا اندارج، مراسلات کا پورا کام انجام دے گا۔ میٹنگ کی کارروائی مرتب کرنا، ہر ماہ اپنے حسابات کو بینک کے حسابات سے مطابقت کرنا، تمام میٹنگوں کی کارروائی روداد کو سننا وغیرہ معتمد کے ذمہ ہو گا۔ اراکین کی درخواستیں، مراسلات وغیرہ مرتب کر کے ماہوار میٹنگ میں پیش کرے گا۔ صدر کے صادر شدہ احکام کی تعمیل کرے گا اور اختلاف

کی صورت میں مجلس منتظمہ کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرے گا

- D. **Joint Secretary:** Assists the secretary and follow his instructions, manage all affairs during the absence of the secretary.

د [نائب معتمد - معتمد کے ہر کام میں مدد کرے گا اس کی ہدایت پر عمل کرے گا، معتمد کی عدم موجودگی میں معتمد کے تمام امور کی دیکھ بھال کرے گا۔

- E. **Treasurer:** Collect all inflows and deposit them in bank and as needed sign the cheques without arguments when instructed by President or secretary. In case of dispute present his case to the Executive body in their monthly meeting.

ه [خازن: ایسوسی ایشن کا پورا سرمایہ وصولی وغیرہ تمام مبلغ بطور امانت بینک کے اکاءونٹ میں جمع کرے گا اور حسب ضرورت صدر یا معتمد کی ہدایت پر بلا تکرارچیک پر دستخط کرے گا اور اختلاف کی صورت میں مابوار میٹنگ میں اپنی شکایت مجلس منتظمہ کے سامنے پیش کرے گا۔

# MEETING

# اجلاس

- Monthly meetings
- Annual meetings
- Emergency meetings

- ماہانہ اجلاس
- سالانہ اجلاس
- ہنگامی اجلاس

All meeting shall start with recitation of Noble Quran and Dua e Imam e Zamana which all participants shall recite together. An oath will be taken to work honestly to please God Almighty and Masoomen (a.s) without any bias on color and creed.

میٹنگ سے پہلے قرآن کی تلاوت اور دعا امام زمانہ سب مل کر پڑھیں گے اس عہد کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ و معصومین کی خوشنودی کے لیے خدمت کریں گے اور تمام تعصبات رنگ و نسل سے بالا رہیں گے۔

All discussions in the meetings will be held with openness and clarity and shall abide by Islamic discipline and ethics. The meetings and shall be concluded with the recitation of Surah Asr or any other Surah of Quran.

میٹنگ سے پہلے قرآن کی تلاوت اور دعا امام زمانہ سب مل کر پڑھیں گے اس عہد کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ و معصومین کی خوشنودی کے لیے خدمت کریں گے اور تمام تعصبات رنگ و نسل سے بالا رہیں گے۔

- Monthly Meeting will be held in the first week of the month comprising of Executive body where Secretary and Treasurer will present details of all accounts.
- Annual meeting will be held between Executive committee and General body members where the Executive committee members will present the summary of their annual activities report.
- Emergency meeting can be called by Executive committee on any special situation to oversee the current issue and at least 3 members are required to be present in the meeting.

الف] ماہانہ اجلاس - ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں ہو گا، جو مجلس منتظمہ پر مشتمل ہو گا، معتمد اور خازن اراکین کے روبرو اپنے حسابات کی تمام تفصیل پیش کریں گے۔

ب] سالانہ اجلاس - جو مجلس منتظمہ اور مجلس عامہ پر مشتمل ہو گا۔ جس میں مجلس منتظمہ اپنی سالانہ کاروائیوں کی رپورٹ مجلس عامہ کے سامنے پیش کرے گی۔

ج] ہنگامی اجلاس۔ جو مجلس منتظمہ ہر ہنگامی ضرورت پر کرے گی، جس میں موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہنگامی اجلاس کے لئے کم از کم تین عہدیداروں کا ہونا ضروری ہے

25. It is the responsibility of the General Secretary and Treasurer to deposit all collections promptly in the bank without any excuse except if it is a bank holiday or any other legal issue.

معتمد اور خازن کو چاہیے کہ وصول شدہ رقم یا دوسرے ذرائع سے آئی ہوئی رقم کو پہلی فرصت میں بینک میں جمع کر دیں شرعی عذر یا بینک کی تعطیل کے علاوہ کوئی عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا

26. If any member of Executive committee wishes to raise a concern or complain about something, he has to submit his request to General Secretary in writing three days prior to the meeting.

مجلس منتظمہ کا کوئی بھی رکن اگر کوئی تحریک چلانا چاہے یا کوئی شکایت کرنا چاہے تو میٹنگ سے تین دن پہلے معتمد کو اپنا تحریری عرضی پیش کرے گا۔

27. President's orders in the meetings are binded upon all the members with due complicity maintaining the levels in the organization. It will be necessary to seek permission from the President for raising a question, if the General Secretary or Treasurer have an objection in complying, they have to raise it through a written request.

28. If any member of the association wishes to raise a concern or complain, an application has to be submitted with payment of 100 baht, otherwise it will not be heard.

29. Any Executive committee member not attending 3 consecutive monthly meetings without a genuine reason or acting against by-laws, dishonesty, carelessness, financial irregularities or using the association for personal benefits may result in expulsion or forfeiture of his membership.

30. Any member indulging in smuggling or gambling type of crimes, the association will not help or assist him in any way.

31. All documents of the association like letter heads, receipt forms, registers etc. without the signature of the General Secretary shall not be accepted legally.

32. If any member is found involved in mischiefs or working against the norms of the association or religion thereby damaging the credibility or opposing the association will be expelled and the decision of the executive committee and advisory board will stand final.

میٹنگ میں ہر رکن اور عہدیدار پر صدر کے احکام والجب العمل ہوں گے۔ مخاطبت میں مراتب کا خیال کیا جائے گا۔ کوئی سوال کرنے سے پہلے صدر سے اجازت طلب کرنی ہو گی اگر معتمد یا خازن کو صدر کے احکام کی تعمیل میں کوئی عذر ہو تو عمل سے پہلے شکایت نامہ پیش کرنا ہو گا۔

اسوسی ایشن کا کوئی بھی رکن اگر کوئی عرضی یا شکایت پیش کرنا چاہے تو سو بھاٹ کی رسید کٹوا کر عرضی کے ساتھ پیش کرنا ہو گا ورنہ عرضی قابل سماعت نہ ہو گی۔

مجلس منتظمہ کے کسی بھی رکن کی عذر شرعی کے بغیر تین ماہ میٹنگ میں غیر حاضری یا باءی لاس کی خلاف ورزی، خیانت، دھوکہ، غفلت، حسابات میں خرد برد یا پیشگی اجازت کے بغیر اسوسی ایشن کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا وغیرہ سنگین جرائم پر عہدے کی معزولی یا رکنیت سے خارج کیا جا سکتا ہے

جو ممبر اسمگلنگ یا اور سٹے یا ایسا کام جو جرم ہو، میں پھنس جائے تو ادارہ اس کی مدد نہیں کرے گا

ایسوسی ایشن کے تمام خطوط، لیٹریچرس، رسید فارم، رجسٹرس وغیرہ پر جب تک معتمد کے دستخط نہ ہوں قانونی سمجھے نہ جائیں گے

اگر کوئی رکن یا عہدیدار اعلانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہو یا قوم و مذہب اور اسوسی ایشن کے مفاد کو کھلے یا چھپے نقصان پہونچانے کی کوشش کرے یا باءی لاس کی خلاف ورزی کرے یا اسوسی ایشن کے فیصلہ کی مخالفت کرے تو اسے اسوسی ایشن سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کے حق میں مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت کی اکثریت کا فیصلہ قطعی ہو گا

# FUND

## فند

33. The funding of the association shall include: donations, business income or Sehme Imam with the permission of the Marjaa.

اس اسوسی ایشن کی آمدنی ڈونیشن، تجارتی منافع اور مرجع کی اجازت سے سہم امام کی رقم سے ہو گی

34. A maximum of 75% of the fund can be utilized in the business or for purchasing the property.

فند کی جملہ رقم میں سے زیادہ سے زیادہ ۷۵ فیصد رقم ادارہ کے لئے کاروبار یا جائیداد کی خریداری میں لگائی جا سکتی ہے

35. The maximum amount of 100,000 baht as loan shall be allowed to executive or general member with a guarantor. The profit will be determined based on the situation and conditions. Note: As every executive member has contributed 25,000 baht so the loan shall be not more than 4 times.

ہر ضامن شدہ ممبر یا عہدیدار کا کاروبار کے لئے فند میں سے ایک لاکھ بھاٹ سے زیادہ رقم نہیں دی جاے گی اور منافع حالات کے اعتبار سے طے کیا جائے گا

36. Any transfer of existing fund or expulsion of any office bearer or change in constitution or in its mode of operation require 75% vote from the members of Executive Body and Advisory board in the presence of minimum 5 founding members and this clause cannot be amended by executive committee.

موجودہ فند کو منتقل کرنے یا مجلس منتظمہ کے عہدیداروں کو برطرف کرنے یا دستور عمل میں ترمیم کرنے یا بنیادی امور میں تبدیلی کرنے کے لئے مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت کی ۷۵ فیصد اکثریت کے ساتھ فونڈر ممبر کے کم از کم پانچ ممبرس کی شرکت لازمی ہے اور اس آخری دفعہ کو کوئی بھی مجلس منتظمہ تبدیل نہیں کر سکتی

# ADVISORY BOARD

## مجلس مشاورت

37. The Advisory Board shall constitute 5 members, if needed additional members can be included. Among the members either current President or General Secretary shall be part of the advisory board.

مجلس مشاورت پانچ یا ضرورت پر اس سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو گی۔ جس میں ایک موجودہ صدر یا معتمد کا ہونا لازمی ہے

38. The Executive Body will select the Advisory Board members.

مجلس منتظمہ ، مجلس مشاورت کے اراکین کا انتخاب کرے گی

39. Any Alipur international trader who is past or present member of AITA can only become member of the Advisory Board.

علی پور کا انٹرنیشنل تاجر جو ایٹا کا سابق یا موجودہ رکن ہو وہی مجلس مشاورت کا رکن بن سکتا ہے

40. The Advisory Board must have one member from the founding members and another shall be from former Presidents or General Secretaries.

مجلس مشاورت میں فائونڈر ممبرس میں سے ایک اور سابق صدر اور سیکریٹری میں سے ایک شخص کا ہونا ضروری ہے

41. The tenure/term of the Advisory Board shall be for 6 years.

مجلس مشاورت کی میعاد چھ سال ہو گی

# POWERS OF THE ADVISORY BOARDS

## مجلس مشاورت کے اختیارات

1. The responsibility to transfer the current fund in case of change of market.
2. To oversee the electoral process. During elections, at least 3 members should be present.
3. To bring amendments in the constitution along with the Executive Body.
4. To secure and oversee the public fund.
5. To take an action or expel a member during the electoral process of the Executive body and to take control during the unforeseen situation or emergencies.

مارکٹ کی تبدیلی پر موجودہ فنڈ کی منتقلی کی ذمہ دار ہو گی

الیکشن کی نظارت کرے گی۔ الیکشن کے وقت کم از کم مشاورت کے تین راکین کا موجود ہونا ضروری ہے

دستور عمل میں ترمیم مجلس منتظمہ کے ساتھ

بیت المال کی حفاظت و نظارات

مجلس منتظمہ کی انتخابی خرابی یا حالات کے بے قابو ہونے پر کسی عہدیدار کو برطرف کرنا

